

سُورَةُ التَّرْغُوتِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- | | |
|--|--|
| ① قسم ہے ان (فرشتوں) کی جو کھینچنے والے میں (روح کو) ڈوب کر | ① وَاللَّيْلِ عُرْقًا ① |
| اور نکال لے جانے والے میں (اسے) آہستگی سے ② | وَالنَّهَارِ نَشْطًا ② |
| اور (ان کی) جو تیرتے پھرتے ہیں تیزی سے ③ | وَالسَّيْحَةِ سَبيًا ③ |
| پھر بہت لے جانے والے ہیں دوڑ کر اللہ کا حکم بجالانے میں ④ | فَالسَّيْقَةِ سَبَقًا ④ |
| پھر انتظام چلانے والے ہیں معاملات کا (احکام الہی کے مطابق) ⑤ | فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ⑤ |
| اک وہ دن آکر ہے گا، جس دن بلا ڈالنے کا جھٹکا ⑥ | يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ⑥ |
| پیچھے آئے گا اس کے دوسرا جھٹکا ⑦ | تَتَّبِعَهَا الرّادِفَةُ ⑦ |
| کتنے ہی دل اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے ⑧ | قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ⑧ |
| نگاہیں ان کی سمی ہوئی ہوں گی ⑨ | أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ⑨ |
| کہتے ہیں یہ لوگ: کیا ہم ضرور لوٹائے جائیں گے واپس | يَقُولُونَ ءَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ |
| پہلی حالت میں ⑩ | فِي الْحَافِرَةِ ⑩ |
| کیا جب بھی کہ ہو چکے ہوں گے ہم بڑیاں کھوکھلی اور بوسیدہ ⑪ | إِذَا كُنَّا عِظَامًا تَخِرَّةً ⑪ |
| کہتے ہیں پھر تو یہ لوٹایا جانا بڑے ہی گھٹنے کا موجب ہوگا ⑫ | قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ⑫ |
| حالانکہ یہ تو بس (ہوگی) زوردار ڈانٹ ایک ہی بار ⑬ | فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ⑬ |
| اور کیدم آ موجود ہوں گے وہ سب میدان (حشر) میں ⑭ | فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ⑭ |

هَلْ أَتَتْكَ حَدِيثٌ مُوسَى ۝۱۵

بھلا پہنچی ہے تمہیں خبر موسیٰ کے واقعہ کی؟ ۝۱۵

إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ

جب پکارا اسے اس کے رب نے

بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝۱۶

طوی کی وادی مقدس میں ۝۱۶

إِذْ هَبَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۝۱۷

کہ جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے ۝۱۷

فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ إِلَّا أَنْ تَزْكَىٰ ۝۱۸

اور کو کیا تجھے کچھ رغبت ہے اس بات کی کہ خود کو پاک کرے؟ ۝۱۸

وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ

اور رہنمائی کروں میں تیری تیرے رب کی طرف

فَتُخْشَىٰ ۝۱۹

کہ تیرے اندر (اس کا) خوف پیدا ہو ۝۱۹

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ۝۲۰

پھر دکھائی موسیٰ نے فرعون کو بڑی نشانی ۝۲۰

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۝۲۱

مگر جھٹلا دیا اس نے اور نہ مانا ۝۲۱

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ۝۲۲

پھر پلٹا چال بازیاں کرنے کے لیے ۝۲۲

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۝۲۳

سوجھ گیا اس نے (لوگوں کو) اور پکارا ۝۲۳

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ۝۲۴

اور کہا میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب ۝۲۴

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ

سو پکڑ دیا اس کو اللہ نے عبرتناک عذاب میں

الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ۝۲۵

آخرت کے اور دنیا کے ۝۲۵

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً

بے شک اس واقعہ میں بڑا سامان عبرت ہے

لِمَنْ يَخْشَىٰ ۝۲۶

ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے (اللہ سے) ۝۲۶

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ۝۲۷

کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا، اللہ نے اس کو بھی بنایا ۝۲۷

رَفَعَ سَنَكهَا فَسَوَّيْهَا ۝۲۸

بلند کیا اس کی چھت کو پھر اس کا توازن قائم کیا ۝۲۸

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۝۲۹

اور تاریک بنایا اس کی رات کو اور ظاہر کیا اس کے دن کو ۝۲۹

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴿٣٠﴾

اور زمین کو بعد ازاں ہموار کیا ﴿٣٠﴾

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا ﴿٣١﴾

نکالا اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ ﴿٣١﴾

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿٣٢﴾

اور پہاڑوں کو بنایا، زمین کا ٹکڑے ﴿٣٢﴾

مَتَاعًا لَّكُمْ

(بطورِ سامانِ زینت تمہارے لیے

وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾

اور تمہارے مویشیوں کے لیے ﴿٣٣﴾

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّلَاقُ الْكُبْرَى ﴿٣٤﴾

پھر جب آئے گی وہ آفت بہت بڑی ﴿٣٤﴾

يَوْمَ يَبْدَأُ كُرَّ الْإِنْسَانُ مَاسِعِي ﴿٣٥﴾

اس دن یاد کرے گا انسان اپنا کیا دھرا ﴿٣٥﴾

وَبُزَّتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى ﴿٣٦﴾

اور کھول کر سامنے کر دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے ﴿٣٦﴾

فَأَتَا مَنْ طَغَى ﴿٣٧﴾

چنانچہ جس نے سرکش کی ﴿٣٧﴾

وَأَثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾

اور تزیح دی دنیاوی زندگی کو ﴿٣٨﴾

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٣٩﴾

تو بے شک جہنم ہی ہے اس کا ٹھکانا ﴿٣٩﴾

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى

لیکن جو کوئی ڈرا پیشی سے اپنے رب کے حضور اور روکا اس نے

النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾

اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے ﴿٤٠﴾

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿٤١﴾

تو بے شک جنت ہی ہے اس کا ٹھکانا ﴿٤١﴾

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ

پوچھتے ہیں لوگ تم سے قیامت کے بارے میں

أَيَّانَ هُورْسَهَا ﴿٤٢﴾

کرب واقع ہوگی وہ؟ ﴿٤٢﴾

فَبِمَ آنتَ مِنْ ذِكْرِهَا ﴿٤٣﴾

کیا سروکار تمہیں اس کے ذکر سے؟ ﴿٤٣﴾

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ﴿٤٤﴾

تیرے رب کے پاس ہے انتہا قیامت (کے علم کی) ﴿٤٤﴾

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ

تم تو بس خبردار کرنے والے ہو

مَنْ يَخْشَاهَا ۝

ان کو جو ڈرتے ہیں قیامت سے ۝

كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا

انہیں ایسے لگے گا جس دن دیکھیں گے قیامت کو

لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحًى ۝

کہ نہیں رہے تھے وہ (دنیا میں) مگر ایک شام یا ایک صبح ۝